



## اے سی سی انڈر 19 ایشیا کپ میں بھارت نے پاکستان کو شکست دے دی

- بھارت نے پاکستان کو 60 رنز سے شکست دی
- پاکستان کی جانب سے کپتان روحیل نذیر کی سنچری

کراچی، 7 ستمبر 2019ء:

سری لنکا میں جاری اے سی سی انڈر 19 ایشیا کپ میں پاکستان اور بھارت کی انڈر 19 کرکٹ ٹیموں کے درمیان میچ ٹائرن فرنیٹو اسٹیڈیم مورٹوا میں کھیلا گیا۔ ایشین کرکٹ کونسل کی جانب سے جاری کردہ تفصیلات کے مطابق قومی انڈر 19 کرکٹ ٹیم کو بھارت کے خلاف میچ میں 60 رنز سے شکست کا سامنا کرنا پڑا۔

میچ سے قبل دونوں ٹیموں کے کھلاڑیوں اور آفیشلز نے لیجنڈری کرکٹر عبدالقادر کی وفات پر ایک منٹ کی خاموشی اختیار کی تھی۔

میچ میں پاکستان انڈر 19 کرکٹ ٹیم کی جانب سے کپتان روحیل نذیر نے اور محمد حارث نے بھارتی باؤلرز کے سامنے مزاحمت کی کوشش کی مگر وہ کامیاب نہ ہوسکے۔ کپتان روحیل نذیر نے 3 چھکوں اور 12 چوکوں کی مدد سے 117 رنز بنائے۔ روحیل نذیر کو آکاش نے ایل بی ڈبلیو اوٹ کیا۔ محمد حارث نے 43 رنز اسکور کیے۔ ان کی اننگ میں 1 چھکا اور 2 چوکے شامل تھے۔ بھارت کی جانب سے اتھاروا انکولے کار نے 3 کھلاڑیوں کو اوٹ کیا۔

306 رنز کے تعاقب میں قومی انڈر 19 کرکٹ ٹیم مقررہ 46.4 اوورز میں 245 رنز بنا کر اوٹ ہوگئی۔ کپتان روحیل نذیر 117 رنز بنا کر نمایاں رہے۔ محمد حارث نے 43 رنز اسکور کیے۔ بھارت کی جانب سے اتھاروا انکولے کار نے 3 اور ودیا در پٹیل نے 2 کھلاڑیوں کو اوٹ کیا۔

اس سے قبل بھارتی انڈر 19 کرکٹ ٹیم کے کپتان دھرو چاند جوریل نے ٹاس جیت کر پہلے بیٹنگ کا فیصلہ کیا۔ پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے بھارتی انڈر 19 کرکٹ ٹیم نے مقررہ

50 اوورز میں 9 وکٹوں کے نقصان پر 305 رنز بنائے۔ میچ میں پاکستان کی پیس جوڑی نسیم شاہ اور عباس آفریدی نے مجموعی طور پر 6 کھلاڑیوں کو آؤٹ کیا۔

نسیم شاہ نے اپنے 10 اوورز پر مشتمل کوٹے میں 52 رنز دے کر 3 کھلاڑیوں کو آؤٹ کیا جبکہ عباس آفریدی نے 10 اوورز میں 72 رنز کے عوض 3 کھلاڑیوں کو آؤٹ کیا۔ قومی انڈر 19 کرکٹ ٹیم کے اسپن باؤلر عامر علی نے 47 رنز دے کر 1 کھلاڑی کو آؤٹ کیا جبکہ محمد عامر نے 1 وکٹ حاصل کر کے 8 اوورز میں 40 رنز دئیے۔

دوسری جانب بھارتی کرکٹ ٹیم نے اپنی اننگ کا آغاز کیا تو 38 کے مجموعی اسکور پر اوپنر سویڈ پارکر 3 رنز بنا کر عباس آفریدی کی گیند پر ایل بی ڈبلیو آؤٹ ہو گئے جس کے بعد ارجن آزاد اور ٹھاکر تلاک ورما کے درمیان 183 رنز کی شراکت نے بھارتی ٹیم کا مجموعہ 221 اسکور تک پہنچادیا۔ ارجن آزاد نے 11 چوکوں اور 4 چھکوں کی مدد سے 121 رنز بنائے۔ ٹھاکر تلک ورما نے 10 چوکوں اور 1 چھکے کی مدد سے 119 گیندوں پر 110 رنز بنائے۔ بھارت کی آخری 8 وکٹیں محض 73 رنز پر گریں۔

بھارتی ٹیم کے 6 کھلاڑی ڈبل فگرز میں داخل نہیں ہو سکے تاہم پاکستان نے میچ میں 24 اضافی رنز دئیے۔

اے سی سی انڈر 19 ایشیا کپ میں پاکستان اپنا اگلا میچ کویت کے خلاف 9 ستمبر بروز پیر کو کھیلے گا۔

– ENDS –

Media contact:

**Ibrahim Badees Muhammad**

Editor – Urdu Content

Media and Communications

E: [ibrahim.badees@pcb.com.pk](mailto:ibrahim.badees@pcb.com.pk)

M: +92 (0) 345 474 3486

W: [www.pcb.com.pk](http://www.pcb.com.pk)

### ABOUT THE PCB

The Pakistan Cricket Board (PCB) is the sole governing body for the game of cricket in Pakistan. Its goal is to work in partnership with its stakeholders to promote, develop and grow the game throughout the country.

The PCB's purpose is to maintain and enhance the reputation and integrity of the game, fostering excellence and upholding the spirit of the game. The PCB selects junior and senior national men's and women's cricket teams to represent the country on the global stage, runs high performance cricket centres across the country and plans and organises domestic competitions and international bi-lateral series.

The PCB is committed to developing ground and facility infrastructure, monitoring the implementation of playing codes and regulations, and supporting the game at every level through its high quality training provision for officials and coaches.

Commercial Partners



[www.pcb.com.pk](http://www.pcb.com.pk) ●  
@therealpcb ●  
@PakistanCricketBoard ●  
@PakistanCricketOfficial ●  
@therealpcb ●

**PCB Headquarters**  
Gaddafi Stadium  
Ferozpur Road, Lahore  
Pakistan, PO Box 54000  
T: +92 42 3571 7231-4